

The Creators= Fencoskill 23 Liquid 30-12-2021
Cyan
Magenta
Yellow
K(Black)



Fencoskill

23

LIQUID

Each 100 ml contains:
Florfenicol..... 23gm
Colistin Sulphate.....50 MIU



Fencoskill

23 Liquid

COMPOSITION:
Each 100 ml contains:
Florfenicol..... 23gm
Colistin Sulphate.....50 MIU
(As per Innovator's Specification)

INDICATIONS:
Florfenicol is a synthetic broad spectrum antibiotic effective against most of gram positive & gram negative bacteria. Colistin effective against Gastrointestinal gram negative bacteria especially Salmonellosis, Colibacillosis & Pasturellosis. Typhonil-C is a combination of two broad spectrum antibiotic which has strong efficacy against bacteria and indicated for treatment of Fowl Cholera, Fowl Typhoid, Enteritis, Colibactosis and disease effecting respiratory and gastrointestinal system, or any other systemic bacterial infection that might be caused by either secondary or primary infections.

DOSAGE & ADMINISTRATION:
Poultry:
Treatment: 1ml per 2 liter of drinking water for 5 to 7 days.
Prevention: 1 ml per 4 liters of drinking water for 3 to 5 days.
Calves: 1ml per 18kg of body weight orally through drinking water.

Note: Required dose of medicine must be dissolved in Luke Warm Water in a bucket and then mix in throughly in required volume of water.

WITHDRAWAL TIME:
Meat & Eggs: 5 days.

PRECAUTION:
Keep out of reach of children. Store in a cool and dry place.

Manufactured By:
Bio Skills Pharmaceuticals
4-KM, Tamboly, GT Road, Sadhoke,
Distt. Gujranwala.

فینکوسکیل - 23 لیکویڈ

اجزائے ترکیبی:
ہر 100 ملی لیٹر میں شامل ہے۔
فلورفینیکول 23 گرام
کولیسٹین سلفیٹ 50 ایم آئی یو

فینکوسکیل - 23 مرغیوں میں جراثیمی بیماریوں مثلاً ٹائیفائیڈ، ہیضہ، آنتوں کی سوزش، ایکولائی، سالمونیلہ، ہیموفیلس، سیڈو کوکس، اسٹریپٹوکوکس، پائچوریلہ اور کلاسٹریڈیا کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ فینکوسکیل - 23 ان تمام جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ جو پھیپھڑوں، نظام ہضم اور جسم کے مختلف حصوں میں انفیکشن پھیلاتے ہیں۔

خوراک و طریقہ استعمال:

مرغیوں کیلئے:
علاج:
1 ملی لیٹر 2 لیٹر پینے کے پانی میں 5 تا 7 دن تک دیں۔
احتیاط:
1 ملی لیٹر 4 لیٹر پینے کے پانی میں 5 سے 7 دن تک دیں۔

نوٹ:

دوا کی مطلوبہ مقدار کو بالٹی میں نیم گرم پانی میں ڈال کر حل کر لیں اب اس محلول کو بقیہ پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں۔